

شعبہ نشر و اشاعت

تنظیم اسلامی پاکستان

36۔ کے، ماڈل ٹاؤن لاہور، فون: 03-5869501، فیکس: 5834000

یکم جنوری 2021ء

پریس ریلیز

کرک میں مندر کو نذر آتش کرنا انتہائی قابلِ مذمت ہے۔

شجاع الدین شیخ

لاہور (پ ر) کرک میں مندر کو نذر آتش کرنا انتہائی قابلِ مذمت ہے۔ یہ بات امیر تنظیم اسلامی شجاع الدین شیخ نے ایک بیان میں کہی۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کی حفاظت حکومت کا فرض ہے۔ لہذا حکومت کو چاہیے کہ وہ مندر کو جلانے والوں اور انہیں اس غیر قانونی فعل پر اُکسانے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کرے۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ اس سارے معاملے کی شفاف انکوائری کرائی جائے اور اس بات کو بھی سامنے لایا جائے کہ علاقے کے مسلمانوں میں آخراشتعال کیوں پھیلا۔ انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمانانِ پاکستان بھارت میں مسلمانوں سے ہونے والے امتیازی بلکہ وحشیانہ سلوک سے انتہائی دل گرفتہ ہیں۔ علاوہ ازیں سرکاری سرپرستی میں ہندو جتھوں کے ہاتھوں مساجد کے شہید کرنے پر سخت رنجیدہ ہیں لیکن اس کے باوجود ہم مسلمانانِ پاکستان پر یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ہمیں ردِ عمل میں انفرادی سطح پر ہرگز ایسے اقدام نہیں کرنے چاہئیں جن کی ہمارا دین اجازت نہیں دیتا۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کا طرزِ عمل یہ ہونا چاہیے کہ اگر غیر مسلم انتہائی اشتعال انگیز اقدام کریں تب بھی ردِ عمل ریاستی سطح پر اور شریعت کے دائرے ہی میں ہونا چاہیے۔

جاری کردہ

ایوب بیگ مرزا

مرکزی ناظم نشر و اشاعت، تنظیم اسلامی پاکستان



TANZEEM-E-ISLAMI

PRESS RELEASE: 01 January 2021

“The incident of setting a mandir ablaze in Karak is extremely condemnable.”

(Shujauddin Shaikh)

Lahore (PR): “The incident of setting a mandir ablaze in Karak is extremely condemnable.”

This was said by the Ameer of Tanzeem-e-Islami, **Shujauddin Shaikh**, in a statement. He noted that it is the sworn obligation of the government in an Islamic state to protect the places of worship of non-Muslims. Therefore, it is the responsibility of the government to take criminal and legal action against those found guilty of setting the mandir ablaze as well as all those elements liable for inciting the perpetrators to commit this condemnable act. He demanded that the government ought to conduct a complete and transparent inquiry into this entire matter and make public the reasons for which the Muslims of the area got incited in the first place. The Ameer remarked that there is no doubt that the Muslims of Pakistan are in deep anguish over the discriminatory, rather brutal and inhumane treatment being inflicted upon the Muslims of India. Moreover, they are also severely grieved by the demolition of mosques being done by Hindu mobs with the full support of the fascist Indian regime. Despite that, we would like to make it abundantly clear to the Muslims of Pakistan that we ought not to take such reactionary steps, by taking matters into our own hands, which are prohibited by our Deen (Islam). The Ameer concluded by asserting that the attitude of the Muslims should be such that if the non-Muslims do extremely inciting acts, even then any and all punitive action ought to be taken at the level of the state and within the bounds and confines of the Islamic Shariah.

Issued by
Ayub Baig Mirza
Markazi Nazim of Press and Publications Section
Tanzeem-e-Islami, Pakistan